



پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2019-20 کے لیے سنٹرل کنٹریکٹ جاری کر دیے

لاہور، 8 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2019-20 کے لیے سنٹرل کنٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیزن میں قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل 6 میچوں سمیت 3 ایک روزہ اور 9 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں شرکت کرے گی۔

پی سی بی نے 19 کھلاڑیوں کو نیا سنٹرل کنٹریکٹ جاری کیا ہے۔ گذشتہ سال سنٹرل کنٹریکٹ 33 کھلاڑیوں کو دئیے گئے تھے۔ نئے سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کے معروضوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔

کٹیگری اے: سرفراز احمد، بابر اعظم اور یاسر شاہ
کٹیگری بی: اسد شفیق، اظہر علی، حارث سہیل، امام الحق، محمد عباس، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی اور وہاب ریاض
کٹیگری سی: عابد علی، حسن علی، فخر زمان، عماد وسیم، محمد عامر، محمد رضوان، شان مسعود اور عثمان شنواری

نیا سنٹرل کنٹریکٹ یکم اگست 2019 سے 30 جون 2020 تک نافذ العمل ہوگا۔ گذشتہ 12 ماہ میں کھلاڑیوں کی فٹنس، کارکردگی اور آئندہ سیزن میں قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے نیا سنٹرل کنٹریکٹ جاری کیا گیا ہے۔

محمد حفیظ اور شعیب ملک کو سنٹرل کنٹریکٹ جاری نہیں کیا گیا تاہم دونوں کھلاڑی قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔

وسیم خان، منیجنگ ڈائریکٹر پی سی بی:

اس موقع پر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ نئے سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے نئے سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل

کھلاڑیوں کے معاوضوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔

وسیم خان نے کہا کہ پی سی بی نے آئندہ سیزن کے لیے بلند اہداف رکھے ہیں ہم نے سنٹرل کنٹریکٹ کے حصول کے لیے معیار بلند کیا ہے۔ اعتماد ہے کہ سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل کھلاڑی اپنی کارکردگی سے ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔

یکم اگست 2019 سے 30 جون 2020 تک پاکستان کرکٹ ٹیم کا شیڈول:

پاکستان بمقابلہ سری لنکا - 2 ٹیسٹ، 3 ایک روزہ اور 3 ٹی ٹونٹی میچز
پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا - 2 ٹیسٹ اور 2 ٹی ٹونٹی میچز
پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش - 2 ٹیسٹ اور 3 ٹی ٹونٹی میچز

- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4